

Lev

Chapter 5

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 1 | וְנִפְשׁוּ | כִּי | תִקְרָא | וְשָׁמְעָה | קוֹל | אֵלָהּ | וְהוּא | עֵד | אֵל | רָאָה | אֵל | יָדַע |
| | اور-جان | جب | گناہ-کرے | اور-سنے | آواز | قسم | اور-یہ | گواہ | یا | دیکھا | یا | جانا |
| | H5315 | | H2398 | H8085 | | H0423 | H1931 | H5707 | | H7200 | | H3045 |

| | | | | |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| אִם- | לֹא | וְיָדַד | וְנִשָּׂא | עֹנֵו: |
| اگر | نہیں | بتائے | اور-اٹھائے | اپنا-گناہ |
| | H3808 | H5046 | H5375 | H5771 |

تو بے جاتا بلایا لئے کے قسم کو گواہوں جب تو بھی ہے۔ جانتا کچھ میں بارے کے اُس وہ یا دیکھا جرم کوئی نے اُس کہ کیا گناہ یوں نے کسی کہ بے سکتا ہو ہے۔ ٹھہرتا قصوروار وہ میں صورت اِس آتا۔ نہیں سامنے لئے کے دینے گواہی وہ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-----------------------|--------|-----------------------|-----|
| 2 | אֵל | זָפַשׁ | אֲשֶׁר | תִּנְעַ | בְּכֹל- | דָּבָר | טָמֵא | אֵל | בְּנִבְלָת | חַיָּה | טָמֵאָה | אֵל |
| | یا | جان | جو | چھوئے | کو-ہر | چیز | ناپاک | یا | مردار-کو | جانور | ناپاک | یا |
| | | H5315 | | H5060 | H3605 | H1697 | H2931 | | H5038 | | H2931 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| بְנִבְלָת | בְּהֵמָה | טָמֵאָה | אֵל | בְּנִבְלָת | שָׂרִץ | טָמֵא | וְנִעְלָם | מִזְנוֹ | וְהוּא | טָמֵא |
| مردار-کو | جانور | ناپاک | یا | مردار-کو | کیڑے | ناپاک | اور-پوشیدہ-ہو | اُس-سے | اور-یہ | ناپاک |
| H5038 | H0929 | H2931 | | H5038 | H8318 | H2931 | H5956 | | H1931 | H2931 |

وְאֲשָׁם:

اور-قصوروار-ہو
[H0816](#)

ہو۔ نہ کیوں لاش کی جانور والے رینگنے یا مویشی جانور، جنگلی کسی وہ خواہ ہے، لیا چھو کو چیز ناپاک کسی پر طور غیرارادی نے کسی کہ بے سکتا ہو ہے۔ ٹھہرتا قصوروار اور بے ناپاک وہ میں صورت اِس

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|------------|--------|-----------------------|
| 3 | אֵל | כִּי | יִנְעַ | בְּטָמֵאָת | אָדָם | לְכֹל | טָמֵאָתוֹ | אֲשֶׁר | יִטָּמָא | בְּהֵ | וְנִעְלָם |
| | یا | جب | چھوئے | ناپاک-کو | آدمی | ہر | اُس-کی-ناپاکی | جو | ناپاک-ہوتا | اُس-سے | اور-پوشیدہ-ہو |
| | | | H5060 | H2932 | H0120 | H3605 | H2932 | | | | H5956 |

وְאֲשָׁם:

اور-قصوروار-ہو
[H0816](#)

[H0816](#)

[H3045](#)

[H1931](#)

اُسے جب ہے۔ گیا ہو ناپاک وہ سے جس چیز ایسی کوئی کی اُس یعنی بے لیا چھو کو ناپاکی کی شخص کسی پر طور غیرارادی نے کسی کہ بے سکتا ہو ہے۔ ٹھہرتا قصوروار وہ تو بے جاتا ہو معلوم

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 4 | אֵל | זָפַשׁ | כִּי | תִשְׁבַּע | לְבִטָּא | בְּשָׂפָתַיִם | אִלְהָרַע | אֵל | לְהִיטִיב | לְכֹל |
| | یا | جان | جب | قسم-کھائے | بولنے-کو | بوٹوں-سے | برائی-کرنے-کو | یا | بھلائی-کرنے-کو | ہر |
| | | H5315 | | H7650 | H0981 | H8193 | | | H3190 | H3605 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|
| אֲשֶׁר | יִבְטָא | הָאָדָם | בְּשָׂבָעָה | וְנִעְלָם | מִזְנוֹ | וְהוּא- | יָדַע | וְאֲשָׁם | לְאָחַת |
| جو | بولتا | آدمی | قسم-سے | اور-پوشیدہ-ہو | اُس-سے | اور-یہ | جانا | اور-قصوروار-ہو | ایک-کے-لیے |
| H0981 | H0120 | H7621 | H5956 | H1931 | H3045 | H0259 | H0816 | | |

מִאֲלָהּ:

ان-سے
[H0428](#)

قصوروار وہ تو بے کیا کیا نے اُس کہ بے لیتا جان وہ جب غلط۔ یا تھا کام اچھا وہ چاہے ہے، کھائی قسم کی کرنے کچھ سے بے پروائی نے کسی کہ بے سکتا ہو ہے۔ ٹھہرتا

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|----------|
| 5 | וְהָיָה | כִּי | יֵאָשֵׁם | לְאַחַת | מֵאֵלֶּה | וְהַתְנַדָּה | אֲשֶׁר | חָטָא | עָלֶיהָ: |
| | اور-ہوگا | جب | قصوروار-ہو | ایک-کے-لیے | ان-سے | اور-اقرار-کرے | جو | گناہ-کیا | اُس-پر |
| | H1961 | | H0816 | H0259 | H0428 | H3034 | | H2398 | |

کرے۔ تسلیم گناہ اپنا وہ کہ بے لازم ہو، قصوروار پر بنا کی گناہ کسی کے طرح اس جو

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|------|
| 6 | וְהָבִיא | אֶת־ | אֲשָׁמוֹ | לְיָהוָה | עַל | חַטָּאתוֹ | אֲשֶׁר | חָטָא | נִקְבָּה | מִן־ |
| | اور-لائے | کو | اپنا-جرمانہ | خداوند-کے-لیے | پر | اپنے-گناہ-کے-لیے | جو | گناہ-کیا | مادہ | سے |
| | H0935 | H0853 | H0817 | H3068 | | | | H2398 | H5347 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|-----------------------|
| | הַזָּאֵן | כִּשְׂבָּה | אֶז־ | שְׂעִירַת | עִזִּים | לְחַטָּאת | וְכִפָּר | עָלָיו | הַכֹּהֵן |
| | بھیڑ-بکری | بھیڑیا | یا | بکری | بکریوں | گناہ-کی-قربانی-کے-لیے | اور-کفارہ-دے | اُس-کے-لیے | کابن |
| | H6629 | H3776 | | H8166 | H5795 | | | | H3548 |

مِحطאתו:
اُس-کے-گناہ-سے

گا۔ دے کفارہ کا اُس امام یوں کرے۔ پیش بکری یا بھیڑ ایک پر طور کے قربانی کی گناہ وہ پھر

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 7 | וְאִם־ | לֹא | תָנִיעַ | יָדוֹ | רֵי | שָׂה | וְהָבִיא | אֶת־ | אֲשָׁמוֹ | אֲשֶׁר | חָטָא | שְׁתֵּי |
| | اور-اگر | نہیں | پہنچے | اُس-کا-باتھ | کافی | بھیڑ | اور-لائے | کو | اپنا-جرمانہ | جو | گناہ-کیا | دو |
| | | H3808 | H5060 | H3027 | H1767 | H7716 | H0935 | H0853 | H0817 | | H2398 | H8147 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|---------|
| | תָּרִים | אֶז־ | שְׁנֵי | בְנֵי־ | יוֹנָה | אֶחָד | לְיָהוָה | אֶחָד | לְחַטָּאת | וְאֶחָד |
| | قمریاں | یا | دو | بچے | کبوتر | خداوند-کے-لیے | ایک | گناہ-کی-قربانی-کے-لیے | اور-ایک | |
| | H8449 | | H8147 | H3123 | H3068 | H0259 | | | H0259 | |

لְעֹלָה:
سوختنی-قربانی-کے-لیے

ایک اور لئے کے قربانی کی گناہ ایک کرے، پیش کبوتر جوان دو یا قمریاں دو کو رب وہ تو سکے دے نہ بکری یا بھیڑ باعث کے غربت شخص قصوروار اگر لئے۔ کے قربانی والی ہونے بہسم

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 8 | וְהָבִיא | אֶתֶם | אֵל־ | הַכֹּהֵן | וְהִקְרִיב | אֶת־ | אֲשֶׁר | לְחַטָּאת | רֵאשׁוֹנָה | וּמִלֶּק |
| | اور-لائے | انہیں | پاس | کابن | اور-قریب-لائے | کو | جو | گناہ-کی-قربانی-کے-لیے | پہلے | اور-مروڑ-دے |
| | H0935 | H0853 | H0413 | H3548 | H7126 | H0853 | | | H7223 | H4454 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | אֶת־ | רֵאשׁוֹ | מִמּוֹל | עֲרֹפוֹ | וְלֹא | יִבְדִּיל: |
| | کا | اُس-کا-سر | سامنے-سے | اُس-کی-گردن | اور-نہیں | الگ-کرے |
| | H0853 | | H4136 | H6203 | H3808 | H0914 |

جائے۔ ہو نہ جدا سر کہ ایسے لیکن ڈالے مروڑ گردن کی اُس وہ کرے۔ پیش پرنده لئے کے قربانی کی گناہ پہلے امام آئے۔ لے پاس کے امام انہیں وہ

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------------|----------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 9 | וְהָיָה | מִדָּם | הַחַטָּאת | עַל־ | קִיר | הַמִּזְבֵּחַ | וְהַנְּשָׂאָר | בְּדָם | יִמְצָה | אֵל־ |
| | اور-چھڑکے | سے-خون | گناہ-کی-قربانی | پر | دیوار | قربان-گاہ | اور-باقی | خون-میں | نچوڑا-جائے | پر |
| | | H1818 | | | H7023 | H4196 | H7604 | H1818 | H4680 | H0413 |

יְסוֹד
بنیاد
قربان-گاہ
گناہ-کی-قربانی
یہ
[H3247](#)
[H4196](#)
[H1931](#)

بے-قربانی کی گناہ یہ ٹپکے۔ پر پائے کے گناہ قربان وہ کہ دے نکلنے یوں وہ خون باقی چھڑکے۔ پر پہلو ایک کے گناہ قربان کچھ سے میں خون کے اُس وہ پھر

10 וְאֶת-
اور-کو
H0853
הַשְּׂנִי
دوسرے
H8145
יַעֲשֶׂה
بنائے
עֲלֶיהָ
سوختنی-قربانی
כַּמִּשְׁפֵּט
قاعدے-کے-مطابق
H4941
וְכִכָּר
اور-کفارہ-دے
עֲלָיו
اُس-کے-لیے
H3548
הַכֹּהֵן
کابن
מִחֻטָּאתוֹ
اُس-کے-گناہ-سے

אֲשֶׁר-
جو
H2398
חָטָא
گناہ-کیا
H2398
וְנִסְלַח
اور-معاف-کیا-جائے
H5545
לָו:
اُسے
ס
س

جائے مل معافی اُسے اور گا دے کفارہ کا آدمی اُس امام یوں کرے۔ پیش پر طور کے قربانی والی ہونے بہسم مطابق کے قواعد کو پرندے دوسرے امام پھر گی۔

11 וְאִם-
اور-اگر
H3808
לֹא
نہیں
H3808
תִּשְׁנֶה
پہنچے
H5381
יָדוּ
اُس-کا-باتھ
H3027
לְשִׁנָּי
دو-کے-لیے
H8147
תָּרִים
قمریاں
H8449
אוֹ
یا
H8147
לְשִׁנָּי
دو-کے-لیے
H8147
בְּי-
بجے
H3123
יוֹנָה
کبوتر
H0935
וְהָבִיא
اور-لائے
H0853
אֶת-
کو
קָרְבָנוֹ
اپنا-نذرانہ
אֲשֶׁר
جو
H2398
חָטָא
گناہ-کیا
H2398
עֲשִׂירֹת
دسواں-حصہ
H6224
הָאֵפָה
ایفہ
H0374
סֵלֶת
میدہ
H5560
לְחֻטָּאת
گناہ-کی-قربانی-کے-لیے
H3808
לֹא-
نہیں
H3808
יְשִׁים
ڈالے
עֲלֶיהָ
اُس-پر
H8081
שָׂמֹן
تیل

וְלֹא-
اور-نہیں
H3808
יִתֵּן
دے
H5414
עֲלֶיהָ
اُس-پر
H3828
לְבָזָה
لوبان
H3828
כִּי
کیونکہ
חֻטָּאת
گناہ-کی-قربانی
H1931
הִיא:
یہ

وہ کرے۔ پیش میدہ بہترین گرام کلو ڈیڑھ لٹے کے قربانی کی گناہ وہ پھر تو سکے دے نہ بھی کبوتر جوان دو یا قمریاں دو باعث کے غربت شخص وہ اگر ہے۔ قربانی کی گناہ بلکہ نہیں نذر کی غلہ یہ کیونکہ رکھے، لُبَان نہ اُنڈیلے، تیل نہ پر اُس

12 וְהִבִּיאָהּ
اور-لائے
H0935
אֶל-
پاس
H0413
הַכֹּהֵן
کابن
H3548
וְקִמְצָה
اور-مٹھی-بھر-لے
H7061
וְהִכְתִּין
کابن
H3548
מִמֶּנָּה
اُس-سے
H4393
מְלֹא
بھری
H4393
קִמְצוֹ
اپنی-مٹھی
H7062
אֶת-
کو
H0853
אֶזְכְּרָתָהּ
اُس-کی-یادگاری
H0234

וְהִקְטִיר
اور-جلائے
H4196
הַמִּזְבֵּחַ
قربان-گاہ-پر
H4196
עַל
پر
H0801
אֲשֵׁי
آگ-کی-قربانیوں
H0801
יְהוָה
خداوند
H3068
חֻטָּאת
گناہ-کی-قربانی
H1931
הוּא:
یہ

ہے۔ قربانی کی گناہ یہ ہیں۔ جاتی جلائی لٹے کے رب جو دے جلا ساتھ کے قربانیوں اُن بھر مٹھی یعنی حصہ کا یادگار جو آئے لے پاس کے امام اُسے وہ

13 וְכִכָּר
اور-کفارہ-دے
H3548
עֲלָיו
اُس-کے-لیے
H3548
הַכֹּהֵן
کابن
עַל-
پر
H3548
חֻטָּאתוֹ
اُس-کے-گناہ-کے-لیے
H3548
אֲשֶׁר-
جو
H2398
חָטָא
گناہ-کیا
H2398
מֵאֶת
سے-ایک
H0259
מֵאֶלֶה
ان-سے
H0428

וְנִסְלַח
اور-معاف-کیا-جائے
H5545
לָו
اُسے
H1961
וְהִיָּתָה
اور-ہوگی
H1961
לְכֹהֵן
کابن-کے-لیے
H3548
כַּמִּנְחָה:
نذر-غلے-کی-طرح
H4503
ס
س

ہے۔ حصہ کا امام میدہ باقی طرح کی نذر کی غلہ گی۔ جائے مل معافی اُسے اور گا دے کفارہ کا آدمی اُس امام یوں

14 וַיְדַבֵּר
اور-بولا
H1696
יְהוָה
خداوند
H3068
אֶל-
سے
H0413
מֹשֶׁה
موسی
H4872
לְאֹמֹר:
کہتے-ہوئے
H0559

کہا، سے موسیٰ نے رب

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 15 | נֶפֶשׁ | כִּי | תִּמְעַל | זִמְעַל | וְחִטָּאָה | בִּשְׂנֹאָה | מִקְדָּשִׁי | יְהוָה | וְהִבִּיא | אֶת |
| | جان | جب | خیانت-کرے | خیانت | اور-گناہ-کرے | بھول-سے | سے-مقدس-چیزوں | خداوند | اور-لائے | کو |
| | H5315 | | H4603 | H4604 | H2398 | H7684 | H6944 | H3068 | H0935 | H0853 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| | אֶשְׁמוֹ | לְיְהוָה | אֵיל | תְּמִים | מִן | הַצֵּאן | בְּעֶרְכָּךְ | כֶּסֶף | שִׁקְלִים |
| | اپنا-جرمانہ | خداوند-کے-لیے | میںڈھا | بے-عیب | سے | بھیڑ-بکری | تیرے-اندازے-کے-مطابق | چاندی | شیقلوں |
| | H0817 | H3068 | H8549 | H6629 | H6229 | H6187 | H3701 | H8255 | |

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| بِشְׁקָל | הַקֹּדֶשׁ | לְאִשָּׁם: |
| شیقل-کے-مطابق | مقدس | جرمانے-کے-لیے |
| H8255 | H6944 | H0817 |

پر طور کے قربانی کی قصور شخص ایسا ہو، کیا گناہ میں سلسلے کے چیزوں مُقدس اور مخصوص کی رب پر طور غیر ارادی کے کر یہ ایمانی نے کسی اگر جائے۔ کی مقرر مطابق کے شرح کی مقدس قیمت کی اُس کرے۔ پیش بکرا یا میںڈھا مناسب سے لحاظ کے قیمت اور بے عیب کو رب

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------|--------|----------|
| 16 | וְאֵת | אֲשֶׁר | חָטָא | מִן | הַקֹּדֶשׁ | יְשֻׁלִם | וְאֶת | חֲמִישְׁתּוֹ | יוֹסֵף | עֲלָיו | וְנִתַּן |
| | اور-کو | جو | گناہ-کیا | سے | مقدس-چیزوں | ادا-کرے | اور-کو | پانچواں-حصہ | ملائے | اُس-پر | اور-دے |
| | H0853 | H2398 | H6944 | H0853 | H2549 | H3254 | H5414 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|----------|-------------------|-------|---|
| אֲתוֹ | לְכֹהֵן | וְהִזְהִין | יִכְפַּר | עָלָיו | בְּאֵיל | הָאֲשָׁם | וְנִסְלַח | לּוֹ: | פ |
| اُسے | کابن-کو | اور-کابن | کفارہ-دے | اُس-کے-لیے | سے-میںڈھے | جرمانہ | اور-معاف-کیا-جائے | اُسے | پ |
| H0853 | H3548 | H3548 | H0817 | H5545 | | | | | |

کے قربانی کی قصور کو جانور امام اور دے دے کو امام اُسے وہ کرے۔ ادا فیصد 20 مزید وہ علاوہ کے اِس دے۔ وہ ہی اتنا ہے ہوا کو مقدس نقصان جتنا گی۔ جائے مل معافی اُسے یوں دے۔ کفارہ کا اُس کے کر پیش پر طور

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--------|------|
| 17 | וְאִם | נֶפֶשׁ | כִּי | חִטָּאָה | וְעִשְׂתָּהּ | אֶחָת | מִכֹּל | מִצֹּת | יְהוָה | אֲשֶׁר | לֹא |
| | اور-اگر | جان | جب | گناہ-کرے | اور-کرے | ایک | سے-کسی-بھی | حکموں | خداوند | جو | نہیں |
| | H5315 | H2398 | H0259 | H3605 | H4687 | H3068 | H3808 | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| תַּעֲשִׂינָהּ | וְלֹא | יִדַע | וְאֲשָׁם | וְנִשָּׂא | עוֹנָו: |
| کیے-جائیں | اور-نہیں | اور-قصوروار-بو | اور-اٹھائے | اپنا-گناہ | |
| H3808 | H3045 | H0816 | H5375 | H5771 | |

گا۔ ٹھہرے دار ذمہ کا اُس وہ اور ہے، قصوروار وہ تو کرے تجاوز سے حکم کسی کے رب کے کر گناہ پر طور غیر ارادی کوئی اگر

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|----------|
| 18 | וְהִבִּיא | אֵיל | תְּמִים | מִן | הַצֵּאן | בְּעֶרְכָּךְ | לְאִשָּׁם | אֶל | הַכֹּהֵן |
| | اور-لائے | میںڈھا | بے-عیب | سے | بھیڑ-بکری | تیرے-اندازے-کے-مطابق | جرمانے-کے-لیے | پاس | کابن |
| | H0935 | H8549 | H6629 | H6187 | H0413 | H0817 | H3548 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--------|------|-------|
| וְכִפַּר | עָלָיו | הַכֹּהֵן | עַל | שִׁנְתּוֹ | אֲשֶׁר | שָׁנַג | וְהוּא | לֹא | יִדַע |
| اور-کفارہ-دے | اُس-کے-لیے | کابن | پر | اُس-کی-بھول-کے-لیے | جو | بھول-کی | اور-یہ | نہیں | جانا |
| H3548 | H7684 | H3045 | H1931 | H3808 | H3045 | | | | |

| | |
|-----------------------|-------|
| וְנִסְלַח | לּוֹ: |
| اور-معاف-کیا-جائے | اُسے |
| H5545 | |

مقرر مطابق کے شرح کی مقدس قیمت کی اُس آئے۔ لے میںڈھا مناسب سے لحاظ کے قیمت اور بے عیب ایک پاس کے امام پر طور کے قربانی کی قصور وہ گی۔ جائے مل معافی اُسے یوں ہے۔ کیا پر طور غیر ارادی نے شخص قصوروار جو چڑھائے لئے کے گناہ اُس قربانی یہ امام پھر جائے۔ کی

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
| 19 | אֲשָׁם | הוּא | אֲשָׁם | אֲשָׁם | לְיְהוָה: | פ |
| جرمانہ | یہ | قصوروار-ہونے-سے | قصوروار-ہوا | خداوند-کے-لیے | | پ |
| H0817 | H1931 | H0816 | H0816 | H3068 | | |

ہے۔ ٹھہرا قصوروار کے کر گناہ کا رب وہ کیونکہ ہے، قربانی کی قصور یہ